

شہد خور پڑیا کا بدل



- ✎ Zulu folktale
- 🎤 Wiehan de Jager
- 🗣 Samrina Sana
- 💬 Urdu
- 🎹 Level 4





یہ ایک شہد خور چڑیا نگیدے اور ایک لاچی آدمی گنگیلے کی کہانی ہے۔
ایک دن جب گنگیلے شکار کے لیے باہر ہوا اس نے نگیدے کی
پکار سُنی۔ گنگیلے کے مہ میں پانی بھر گیا جب اس نے شہد
کے بارے میں سوچا۔ وہ رُک گیا اور اس نے غور سے سُنا۔
جب تک کہ اسے اپنے سر کے اوپر موجود ٹہنیوں پہ یہ ٹھاپرنده دکھائی
نہیں دیا۔ چمک۔ چمک۔ چھوٹا پرندہ چپھایا جیسا کہ وہ اگلے اور
اس سے اگلے درخت پر جا کر یہ ٹھاپرنده چمک۔ چمک۔ چمک۔ اس
نے بلایا۔ وقاً فقاً وہ اس بات کو یقینی بنارہا کہ گنگیلے اس
کے پیچے ہے۔



آدھر گھنٹے کے بعد، وہ ایک بڑے انجر کے درخت کے پاس پہنچے۔ اُس نے پالگوں کی طرح ٹہنیاں چھانی۔ اور پھر وہ ایک ٹہنی پر آ کر رُک گیا جیسا کہ وہ گلگیلے سے کہنا چاہتا ہوا ب آواب آؤ بیہ رہا! تمہیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ گلگیلے کو درخت کے نیچے کوئی مکھیاں دکھائی نہ دیں، لیکن اُس نے نگمیدے پر بھروسہ کیا۔



اس لہیے گھمیلے نے اپنا ہتھیار درخت کے بغیر رکھ دیا اور کچھ سوکھی لکڑیاں اکھن کر کے آگ جلانی۔ جب آگ ٹھیک سے جل رہی تھیں اُس نے ایک لمبی سوکھی لکڑی درمیان میں رکھ دی۔ یہ لکڑی جلنے پر بہت سادھوں دینے کے لہیے جاتی ہے۔ دوسری طرف سے لکڑی کا ٹھیڈا حصہ دانوں میں پکڑے درخت پے چڑھنے لگا۔



جلد ہی اُسے مصروف مکھیوں کی آواز آنا شروع ہوتی۔ وہ درخت میں ایک سوراخ میں سے آ جا رہیں تھیں جو کہ اُن کا چھتہ تھا۔ جب گلگیلے چھتے کے پاس پہنچا اُس نے لکڑی کا جلداً ہوا حصہ مکھیوں کے چھتے میں ڈال دیا۔ مکھیاں غصے سے بھڑکنیاتی ہوتیں چھتے سے باہر نکلیں۔ وہ اڑ گئیں کیونکہ انہیں دھواں پسند نہیں۔ لیکن اس سے پہلے نہیں جب تک وہ گلگیلے کو کچھ دردناک ٹنگ نہ مار لیتیں۔



جب مکھیاں باہر نکل گئیں، گنگیلے نے اپنا ہاتھ چھتے میں ڈالا اور چھتے کے حصوں کو باہر نکالا جو کہ شہد سے بھرے ہو تے تھے اور چربی سے بھرے سعید گروں کو بھی باہر نکالا۔ اس نے شہد سے بھرے چھتے کو اپنے ہیٹھلے میں رکھا اور کندھ پر پہن لیا اور درخت سے نیتے اُترنا شروع کر دیا۔




نگیدے یہ سب بہت شوق سے دیکھ رہا تھا جو کچھ گلگیلے کر رہا تھا۔
وہ انتار میں تھا کہ بطور شہد خور چڑیا شکریہ کے طور پر وہ اُس کو شہد دے
گا۔ نگیدے ایک شاخ سے دوسری شاخ نزدیک سے نزدیک زمین پر
اُس کے پاس جانے کی کوشش میں تھا۔ آخر کار گلگیلے درخت
سے نیچے اُتر آیا۔ نگیدے اُس کے پاس پڑے ایک پتھر پر آگر روکا
اور اپنے انعام کا انتار کیا۔



لیکن گھنیلے نے آگ بجھائی، اپنا ہتھیار اٹھایا اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پرنے کو نظر انداز کر ٹے ہو ٹے۔ نگینے نے غصے سے پکارا۔ وک۔ ڈراؤک ڈراؤک! گھنیلے رکا پرنے کو گھورا اور زور سے ہنسا۔ تھمیں شہد چاہیے؟ واقعی میرے دوست؟ آہ لیکن میں نے خود سارا کام کیا اور ڈنگ کا درد سہا۔ تو میں یہ مزیدار شہد تھمارے ساتھ کیوں بانٹوں؟ اور وہ چلا گیا۔ نگینے شدید غصے میں بھاؤ سے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اپنا بدلہ اے گا۔



ایک دن کئی ہفتوں کے بعد گلگیلے نے نگیدے کی شہد کے لیے پکار سئی۔ اسے مزیدار شہد یاد تھا، اور اس نے تیزی سے پرندے کا پیچھا کیا۔ نگیدے کو جمل کے کنارے پر لا کر وہ رک گیا جہاں کانٹوں کا ایک جھاڑ موجود تھا۔ آہ۔ گلگیلے نے سوچا کہ شہد کا چھتا اسی درخت میں ہو گا۔ اس نے جلدی سے آگ جلانی اور دانتوں میں جلتی ہوئی لکڑی کو دبا۔ تے درخت پر چڑھنے لگا۔ نگیدے یہ ٹھایہ سب دیکھ رہا تھا۔



درخت پڑھتے ہو ائے گلگیلے نے غور کیا کہ اُسے مکھیوں کی بھجننا نے کی آواز کیوں نہیں آ رہی۔ شاید پڑھتا درخت کی بہت گہرائی میں تھا۔ اُس نے سوچا۔ لیکن پڑھتے کے باہم ائے وہ ایک چیز کے چہرے کو گھوڑا رہا تھا۔ چیز اپنی نیڈ کے اتنے خراب ہو نے پر بہت غصہ تھی۔ اُس نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر تے ہو ائے مہکھو لا تا کہ وہ اپنے بڑے اور تیز دانت دکھا سکے۔



اس سے پہلے کہ چیقی اس پر جملہ کرتی۔ گنگیلے درخت سے
نچے اُتر آیا۔ جلد بازی میں اُس نے ایک ٹھنپ چھوڑی جس وجہ سے
وہ سیدھا زین پر آگرا اور اُس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ تیزی سے فرار ہوا۔
خوش تسمیت سے چیقی نبید میں ہو نے کی وجہ سے اُس کا پیچانہ کر
پائی۔ نگنید، شہد خور چڑیا نے اپنا بدلہ اے لیا۔ اور گنگیلے
نے سبق سیکھ لیا۔



اور جب گلگیلے کے بچوں نے نگیدے کی کہانی سنی اُن کے دل میں چھوٹے پرندے کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ جب کہ جی وہ شہد اُتار تے وہ اس بات کو یقینی بنا تے کہ چھتے کا سب سے بڑا حصہ وہ شہد خور چڑیا کے لیے چھوڑ دیں گے۔



Storybooks UK

global-asp.github.io/storybooks-uk

شہد خور چھپا کا بدل

Written by: Zulu folktale

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Samrina Sana

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks UK](#) in an effort to provide children's stories in UK's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
Attribution 3.0 International License.

